



سوال

(483) مسروقہ مال مالک کی وفات کے بعد کس کے سپرد کیا جائے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بخرنے اپنی ممانی ہندہ کا طلائی زیور چرایا اور خرچ کر ڈالا جس کی قیمت مبلغ 80 روپیہ تھی بعد ازاں جب بخر کو خوف خدا غالب ہوا تب اس نے ادا کرنا چاہا لیکن کوئی صورت اس کے یک مشت یا تھوڑا تھوڑا ادا کرنے کی نہ تھی اور اسی وجہ سے بخر نے ہندہ سے اس امر کو پوشیدہ رکھا اور ہندہ کو بخر کی جانب کسی قسم کا خیال دزری (چوری) کا نہ ہوا۔ بعد ہندہ نے انتقال کیا۔ بعد انتقال کے بخر ہندہ کی طرف سے جس قدر قیمت مال مسروقہ کی تھی مثل تیاری مسجد، مدرسہ و مساکین وغیرہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ کل روپیہ جس قدر کہ اس نے چرایا تھا اسی طرح خیرات کردی تو اب خدا کا مواخذہ اس پر ہوگا یا نہیں اور ہندہ مال کے پانے کی مستحق قیامت میں ہوگی یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس صورت میں اگر ہندہ کے وارث موجود نہیں ہیں، تب خیرات کرنا بخر کا ہندہ کی طرف سے درست ہے اور اگر ہندہ کے ورثہ موجود ہیں تو وہ مال وارثوں کا ہوگا، کیونکہ یہ مال ہندہ کا متروکہ ہے اور جو مال متروکہ ہوتا ہے، وہ حق ورثہ کا ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی حق ورثہ کا ہے، پس اگر ورثہ کو دے دے گا یا ورثہ معاف کر دیں گے، تب مواخذہ نہ ہوگا اور اگر نہ دے گا یا ورثہ معاف نہ کریں گے تو ورثہ مستحق اس مال کے قیامت میں ہوں گے اور بخر سے مواخذہ ہوگا۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری

کتاب الخطر والاباحۃ، صفحہ: 726

محدث فتویٰ